

TANF سروسز کی درخواست/سرٹیفکیشن

ہدایات

- اس فارم پر درخواست کی گئی معلومات اس بات کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ آیا وفاقی عارضی امداد برائے ضرورت مند خاندان (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) کے فنڈز آپ کو سروسز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔
- اس فارم میں موجود اصطلاحات سے متعلق اضافی معلومات صفحات نمبر 6 اور 7 پر موجود ہیں۔

کیا ان میں سے کوئی فرد آپ کے گھر میں رہتے ہیں؟ ان سب کو نشان زد کریں جن کا اطلاق ہوتا ہے:

- 18 سال سے کم عمر کے نابالغ بچے یا 19 سال سے کم عمر فرد جو سیکنڈری سکول (ہائی سکول) یا مساوی درجہ کی پیشہ ورانہ یا تکنیکی ٹریننگ (مثلاً BOCES پروگرام) میں پڑھ رہے ہوں،
- حاملہ خاتون،
- ایک بالغ فرد جو والدین میں سے ایک نہیں ہیں بلکہ وہ ایک رشتے دار ہیں جو ایک نابالغ بچے کی نگہداشت کر رہے ہیں،
یا
- آپ ایک نابالغ بچے کے تحویل نہ رکھنے والے والد/والدہ ہیں۔
- اگر کوئی باکس نشان زد نہ ہو تو، **رک جائیں**۔ آپ TANF کی فنڈ شدہ سروسز کے لیے اہل نہیں ہیں۔
- اگر ایک یا زائد باکسز نشان زد کیے گئے ہیں تو درخواست کا عمل جاری رکھیں۔

سیکشن ایک:

درخواست گزار اور درخواست گزار کے خاندان (خاندان کے ارکان) کے متعلق معلومات

- صفحہ نمبر 6 پر موجود "درخواست گزار" کی تعریف پڑھنا یقینی بنائیں۔
- آئٹم A میں فراہم کردہ معلومات TANF سروسز کے درخواست گزار کے متعلق ہونی چاہیئے۔

A. درخواست گزار کا نام: _____

گھر کا پتہ: _____

(شہر، ریاست، زپ کوڈ)

(گلی) (اپارٹمنٹ)

ٹیلی فون: _____

B. ذیل میں، درخواست گزار اور درخواست گزار کے ساتھ رہنے والے درخواست گزار کے خاندان کے ارکان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ صفحات نمبر 6 اور 7 پر خاندان کے ارکان کی تعریف پڑھنا یقینی بنائیں۔

نام (پہلا، درمیانی نام کا پہلا حرف، آخری)	آپ سے رشتہ	تاریخ پیدائش	پیدائش کا مقام	سوشل سیکیورٹی نمبر	اگر سروسز کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو نشان زد کریں
1. درخواست گزار					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

C. اگر سروسز کے درخواست گزار نابالغ بچہ ہیں، کیا یہ بچہ (اگر دونوں میں سے کوئی قابل اطلاق ہے تو اسے نشان زد کریں):

ایسے رشتہ دار کے ساتھ رہ رہے ہیں جو نابالغ بچے کے اولین نگہداشت کنندہ ہیں

یا

فوسٹر کینز میں موجود ہیں اور اس بچے کو گھر واپس پہنچائے جانے کا منصوبہ موجود ہے۔

کیا مذکورہ بالا آئٹم B میں کوئی نابالغ بچہ شامل ہے؟

ہاں، سیکشن دو پر جائیں۔

نہیں، اگلے سوال (D) پر جائیں۔

D. اگر B میں کوئی نابالغ بچہ شامل نہیں تو کیا درخواست گزار یا کوئی خاندان کے کوئی رکن حمل سے ہیں؟

ہاں، سیکشن دو پر جائیں۔

نہیں، اگلے سوال (E) پر جائیں۔

E. کیا مذکورہ بالا آئٹم B میں شامل خاندان کے کوئی رکن نابالغ بچے کے اولین نگہداشت کنندہ ہیں؟ (صفحہ نمبر 6 پر تعریف دیکھیں)

ہاں، جن نابالغ بچے کی نگہداشت کی جا رہی ہے ان سے متعلق مندرجہ ذیل کو پُر کریں:

بچے/بچی کا نام کا نام	تاریخ پیدائش	رشتہ
1.		
2.		
3.		

سیکشن دو پر جائیں۔

نہیں، اگلے سوال (F) پر جائیں۔

F. کیا آپ کسی ایسے بالغ بچے (بچوں) کے تحویل نہ رکھنے والے والد/والدہ ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟

- نہیں۔ یہاں پر رک جائیں۔ آپ TANF سروسز موصول نہیں کر سکتے کیونکہ نہ آپ اور نہ خاندان کے کوئی رکن نابالغ بچہ ہیں، نہ حاملہ ہے، نہ کسی نابالغ بچہ کا بنیاداولین نگہداشت کنندہ نہیں، یا آپ کسی نابالغ بچے کے تحویل نہ رکھنے والے والد/والدہ نہیں ہیں۔
- ہاں۔ مندرجہ ذیل معلومات مکمل کریں:

تاریخ پیدائش	بچے/بچی کا نام کا نام

-1
-2
-3
-4

آپ کو 'تحویل نہ رکھنے والے والد/والدہ کی معلومات کا ریفرل' فارم (OTDA-4728) بھی پُر کرنا ہوگا۔

سیکشن دو: شہریت یافتہ/غیر شہریت یافتہ حیثیت

A. کیا TANF سروسز کے تمام درخواست گزار (جو سیکشن ایک، آئٹم B میں نشان زد ہیں) امریکی شہری ہیں؟

- ہاں۔ اگر ہاں تو سیکشن تین پر جائیں۔
- نہیں۔ اگر نہیں تو آئٹم B مکمل کریں۔

B. اگر درخواست گزار یا خاندان کے وہ رکن (یا ارکان) جو TANF سروسز کے لیے درخواست دے رہے ہیں، امریکی شہری نہیں ہیں تو صفحات نمبر 7 تا 9 پر 'ترک وطن کی حیثیت کی فہرست' دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ TANF سروسز کے لیے درخواست دینے والے ہر خاندان کے رکن پر ترک وطن کی کس حیثیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فہرست میں سے حیثیت کا نمبر درج کریں اور نیچے دی گئی معلومات کو مکمل کریں۔

نام	فہرست نمبر	INS فارم نمبر	پرڈیس کا نمبر	امریکہ میں آمد/حیثیت جاری کیے جانے کی تاریخ

-1
-2
-3
-4
-5
-6

سیکشن تین: خاندان کے ارکان کی آمدنی

A. کیا درخواست گزار اس وقت ان میں سے ایک یا زائد پروگرام کے تحت مراعات موصول کر رہے ہیں؟

- ہاں، نشان زد کریں کہ کون سا پروگرام (پروگرامز) اور پھر سیکشن چار پر جائیں۔

SSI	HEAP	سپلیمنٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام (SNAP)	MEDICAID	فیملی اسسٹنس/سیرفٹی نیٹ

- نہیں، اس کے فوری بعد نیچے دی گئی آئٹم B مکمل کریں۔

B. درخواست گزار اور درخواست گزار کے خاندان کے ارکان کی آمدنی۔

- سیکشن ایک کے آئٹم B میں درج خاندان کے ہر رکن کی مجموعی آمدنی شامل کریں (ٹیکسز اور کٹوتیوں سے پہلے کی آمدنی)۔ آپ کو ہمیں جس آمدنی کے بارے میں بتانا ہے اور جو آمدنی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے صفحہ نمبر 7 پر موجود 'مجموعی آمدنی' کی تعریف ملاحظہ کریں۔
- مجموعی آمدنی کے تمام ذرائع کی فہرست درج کریں، بشمول وصول شدہ اجرت، سوشل سیکیورٹی کی مراعات، عوامی معاونت کی مراعات، اعانت اطفال، نان نفقہ وغیرہ اور خاندان کے کسی رکن کی طے شدہ وقفے سے وصول ہونے والی آمدنی۔

نام	آمدنی کا ذریعہ: اجرت، سوشل سیکیورٹی وغیرہ	رقم	موصول شدہ (ایک کو نشان زد کریں)		
			سالانہ	ماہانہ	ہفتہ وار
1. درخواست گزار					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

C. کیا درخواست گزار یا خاندان کے کوئی رکن فی الوقت ایسے بچوں کے لیے عدالتی حکم کے مطابق باقاعدگی سے اعانت اطفال کی ادائیگی کرتے ہیں جو اس گھرانے کے ساتھ نہیں رہتے؟

نہیں، سیکشن چار پر جائیں۔

اگر ہاں تو خاندان کے یہ رکن کتنی ادائیگی کرتے ہیں؟ \$ _____ خاندان کے یہ رکن یہ رقم کتنے وقفے سے ادا کرتے ہیں (ہفتہ وار، ماہانہ یا سالانہ)؟ _____

سیکشن چار پر جائیں۔

سیکشن چار: درخواست گزار کو اطلاع اور دستخط

آپ سے اپنے کسی بھی نیز سبھی بیانات کو ثابت کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے آپ سے ایسا کرنے کو کہا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بیانات کو کیسے ثابت کریں۔

ہم سوشل سیکیورٹی نمبر (نمبرز) کیوں طلب کر رہے ہیں:

- TANF سروسز یا اعانت کے لیے درخواست دینے والے یا انہیں وصول کرنے والے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر فراہم کریں۔
- سوشل سیکیورٹی نمبرز وفاقی قانون (سوشل سیکیورٹی ایکٹ کے سیکشن (4)(a)409) نیز وفاقی ضوابط (45 CFR 264.10) کے تحت درکار ہیں۔

ہم سوشل سیکیورٹی نمبر (نمبرز) کو کس لیے استعمال کر سکتے ہیں:

- دیگر پروگرامز کے ساتھ کمپیوٹر میجز کرنے کے لیے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ یہ پروگرامز وصول کر رہے ہیں (مثلاً SNAP)۔
- سرٹیفیکیشن فارم پر دیگر معلومات کی توثیق کرنے کے لیے کمپیوٹر میج کرنے کی خاطر (مثلاً آپ کی ملازمت کی آمدنی)۔
- امیگریشن اور نیچرلائزیشن سروس (Immigration and Naturalization Service, INS) کے ساتھ آپ کے غیر شہری ہونے کے اسٹیٹس کی توثیق کرنے کے لیے۔

اگر آپ کسی بچہ کے غیر سرپرست والد/والدہ ہیں تو ہم آپ انٹرا/انٹر اسٹیٹ اعانت اطفال کے نفاذ کی سروسز کے لیے آپ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی خاطر آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر استعمال کریں گے۔

اگر آپ TANF سروسز حاصل کرنے کے لیے آپ کی اہلیت کے حوالے سے ہمارے کیے گئے کسی بھی فیصلے سے متفق نہیں ہیں، تو آپ کسی ایسے فرد سے اپنی سرٹیفیکیشن کا جائزہ کروا سکتے ہیں جو پہلا فیصلہ کرنے والے فرد سے بلند درجے پر ہوں۔

TANF سرٹیفیکیشن کے لیے اپنی درخواست سکو مکمل کرنے کے لیے آپ کا اس فارم پر دستخط کرنا لازمی ہے۔

اس پر دستخط کر کے، غلط بیانی کے جرماتے کے متعلق جانتے ہوئے حلفیہ بیان دیتا/دیتی ہوں کہ:

- مذکورہ بالا تمام بیانات میرے بہترین علم کے مطابق درست ہیں اور میں فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کے لیے کسی بھی کوشش میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں بشمول اہل خانہ کی ترتیب، آمدنی اور شہریت کا اسٹیٹس۔

*دستخط شدہ: _____ تاریخ: _____

درخواست گزار سے تعلق: _____

*جو درخواست گزار نابالغ بچہ ہیں ان کی جگہ والدین یا اولین نگہداشت کنندہ رشتہ دار کو دستخط کرنا ہوں گے۔ رضاعی نگہداشت میں موجود بچوں کے لیے سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ (Department of Social Services) کے کمشنر یا ان کے نامزد کردہ فرد کا دستخط کرنا ضروری ہے۔

تعریفیں

نابالغ بچہ: ایک "نابالغ بچہ" وہ بچہ ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہو یا ان کی عمر 19 سال سے کم ہو اور وہ سیکنڈری اسکول (ہائی اسکول) یا پیشہ ورانہ یا تکنیکی تربیت کی مساوی سطح پر پڑھ رہے ہوں (مثلاً، BOCES پروگرام)۔ نابالغ بچے کے TANF سروسز کے لیے اہل ہونے کے لیے، ضروری ہے کہ متعلقہ نابالغ بچے والدین یا اولین نگہداشت کنندہ رشتے دار کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، یا گھر واپسی بھجوائے جانے کے منصوبے کے ساتھ رضاعی نگہداشت میں موجود ہوں۔

اولین نگہداشت کنندہ: اولین نگہداشت کنندہ وہ بالغ رشتے دار ہیں جن کے ساتھ نابالغ بچے رہتے ہیں، اگر یہ بچے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے۔ اولین نگہداشت کنندہ بچے کی بہبود کے بارے میں زیادہ تر فیصلے کرتے ہیں۔

تحويل نہ رکھنے والے والدین: تحويل نہ رکھنے والے والدین وہ والدین ہیں جو بچے کے ساتھ نہیں رہتے یا ان کی ذاتی طور پر تحويل نہیں رکھتے، لیکن جو بچے کو مالی اور طبی اعانت فراہم کرنے کے قانونی طور پر ذمہ دار ہیں۔

TANF سروسز کے درخواست گزار کون ہیں؟

درخواست گزار TANF سروسز کی درخواست کرنے والے فرد ہیں۔ ان فرد کے متعلق معلومات کو لازمی طور پر سیکشن ایک، آئٹمز A اور B میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر ایک سے زائد افراد TANF سروسز کی درخواست کر رہے ہوں تو TANF سروسز کے لیے درخواست دینے والے خاندان کے ایک بالغ رکن کو درخواست گزار کے طور پر درج کیا جانا چاہیے۔ اگر خاندان کے کوئی بالغ فرد TANF سروسز کے لیے درخواست نہیں دے رہے تو TANF سروسز کی درخواست کرنے والے سب سے بڑے بچے درخواست گزار ہوں گے۔

نگہداشت کنندہ رشتہ دار کا استثنیٰ

اگر نابالغ بچے کے اولین نگہداشت کنندہ وہ رشتہ دار ہوں جو بچے کے والدین میں سے نہ ہوں اور جن TANF سروسز کی خاندان کو ضرورت ہے وہ بچے کی حفاظت یا روک تھام کی خدمات ہوں تو نابالغ بچہ خدمات کا درخواست گزار ہو گا۔

یہ خدمات صرف بچے کے اولین نگہداشت کنندہ کو گھر میں نابالغ بچے کی باحفاظت دیکھ بھال جاری رکھنے یا نابالغ بچے کو رضاعی نگہداشت سے رشتہ دار کے گھر واپس پہنچانے کے قابل بنانے سے متعلق ہوں گی۔

دیگر تمام خدمات کے لیے، درخواست گزار وہ شخص ہیں جو درحقیقت خدمات حاصل کریں گے۔

خاندان کے ارکان کون ہیں؟

مندرجہ ذیل تمام افراد جو درخواست گزار کے ساتھ رہتے ہیں خاندان کے افراد ہیں اور انہیں سیکشن ایک، آئٹم B میں شامل کیا جانا چاہیے:

- درخواست گزار کے شوہر یا بیوی
- درخواست گزار کے نابالغ بچے اور ان کے بہن بھائی جو خود بھی نابالغ بچے ہیں (بشمول سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلے والدین کی اولاد بہن بھائی)،
- اگر درخواست گزار نابالغ ہیں تو، درخواست گزار کے والدین اور درخواست گزار کے وہ بہن بھائی جو نابالغ بچے ہیں، اور
- اوپر درج نابالغ بچوں میں سے کسی کے باپ یا ماں، چاہے وہ والدین شادی شدہ نہ ہوں۔

خاندان کے ارکان کے لیے خصوصی اصول

رضاعی نگہداشت میں موجود بچے

جو بچے رضاعی نگہداشت میں موجود ہوں ان کو بطور "خاندان کا رکن" اس وقت شامل کیا جائے گا اگر بچے کو گھر واپس بھجوانے کا منصوبہ موجود ہو۔ مندرجہ بالا "خاندان کا رکن" کے اصول رضاعی نگہداشت میں موجود ان بچوں پر لاگو نہیں ہوتے جو خود TANF سروسز کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ ان صورتوں میں، رضاعی بچے کو ایک فرد پر مشتمل خاندان تصور کیا جاتا ہے۔

شادی شدہ نابالغ افراد

- جو نابالغ بچے شادی شدہ ہوں اور درخواست گزار کے گھر میں رہ رہے ہوں ان کو خاندان کا رکن نابالغ بچے کے طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔
- اگر شادی شدہ نابالغ بچے درخواست گزار یا درخواست گزار کے شریک حیات ہوں تو خاندان کے افراد میں شادی شدہ نابالغ بچے کے والدین یا بہن بھائی شامل نہیں ہوں گے۔

مجموعی آمدنی

آپ کو ہمیں خاندان کے ارکان کی اس موجودہ آمدنی کے بارے میں بتانا ہو گا جو آپ نے سیکشن ایک، ایٹم B میں درج کی ہے۔ آپ کو ہمیں مجموعی آمدنی کی رقم فراہم کرنا ہوں گی۔ مجموعی آمدنی کا مطلب ٹیکس اور دیگر کٹوتیوں سے پہلے کی آمدنی ہے۔ جو آمدنی آپ نے لازماً فہرست میں شامل کرنی ہے وہ یہ ہے، لیکن اس تک محدود نہیں ہے:

- اجرت، تنخواہ اور کام پر وصول ہونے والی بخششیں
- ذاتی کام سے آمدنی (کاروباری اخراجات کے بعد)
- سوشل سیکورٹی کی مراعات
- عوامی معاونت (فیملی اسسٹنس، سیفٹی نیٹ اسسٹنس)
- بے روزگاری کا معاوضہ
- مزدوروں کا معاوضہ
- سپلیمنٹل سیکورٹی انکم (SSI)
- چائلڈ سپورٹ کی وصول ہونے والی ادائیگیاں
- وصول ہونے والا نان نفقہ
- سود کی ادائیگیاں
- طے شدہ وقفے سے وصول ہونے والی کوئی دیگر آمدنی جس کو ذیل میں غیر متعلقہ قرار نہیں دیا گیا

جو آمدنی آپ شامل نہیں کریں گے

- نابالغ بچے کی کمائی ہوئی آمدنی
- گورد لینے/ارضاعی نگہداشت کی ادائیگیاں
- یک وقتی قرضے، تحائف، یکمشت ادائیگیاں یا طے شدہ وقفے سے وصول ہونے والی دیگر آمدنی
- نگہداشت اطفال کی سبسڈی کی ادائیگیاں

موجودہ آمدنی

موجودہ آمدنی وہ آمدنی ہے جو TANF سروسز کی درخواست کے کیلنڈر مہینے میں وصول ہو یا متوقع ہو، اور اس مہینے کے بعد بھی جاری رہنے کی توقع ہو۔

یا

اگر درخواست کے کیلنڈر مہینے میں آپ کی آمدنی آپ کی معمول کی ماہانہ آمدنی سے زیادہ ہے، تو آپ اپنی سالانہ آمدنی (گزشتہ بارہ مہینوں کی آمدنی) کی بنیاد پر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سالانہ آمدنی کو آمدنی میں کسی بھی معلوم یا متوقع تبدیلی کے لیے ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو حال ہی میں کوئی نئی ملازمت ملی ہے، تو آپ کو اپنی سالانہ آمدنی کا حساب لگانے کے لیے اس ملازمت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شامل کرنا ہوگا۔ آپ ماضی میں موصول ہونے والی ایسی آمدنی شامل نہیں کریں گے جس کے متواتر وصول ہونے کی آپ کو توقع نہیں ہے۔

ترک وطن کی حیثیت کی فہرست (بہ فہرست اس وقت سیکشن دو کو مکمل کرنے کے لیے استعمال ہو گی جب TANF سروسز کے درخواست گزار امریکہ کے شہری نہ ہوں۔)

آپ سے ان فرد کی ترک وطن کی حیثیت کی تصدیق کے لیے دستاویزات فراہم کرنے کو کہا جائے گا۔ ہم اس بات کا تعین کرنے کے لیے آپ کی ترک وطن کی حیثیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آیا آپ یا خاندان کے کوئی رکن وفاق کی فنڈ شدہ TANF سروسز کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قانونی تارک وطن ہوں، لیکن وفاق سے فنڈ شدہ TANF سروسز کے اہل نہ ہوں۔ نوٹ: خاندان کے رکن TANF سروسز اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خاندان کا یہ رکن امریکی شہری نہ ہو یا اس صفحے پر درج حیثیتوں میں سے کسی ایک کے تحت اہل غیر شہریت یافتہ نہ ہوں۔

عمومی دستاویزات	اہلیت کے لیے متعلقہ تاریخ	حیثیت
<p>I-94: "Admitted under Section 207 of the INA" کی دفعہ 207 کے تحت قبول کیا گیا، "Refugee" (پناہ گزین)، "RE1، RE2، RE3، RE4" کی مہر لگی ہوئی</p> <p>I-551: "RE6، RE5، RE7، RE8 یا RE9" کی مہر لگی ہوئی</p> <p>I-571: پناہ گزین کی سفری دستاویز</p> <p>I-688B: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن دستاویز پر یہ تحریر درج شدہ "8 C.F.R. § 274a.12(a)(3)"</p> <p>I-766: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن دستاویز پر "a3" درج ہو</p>	داخلہ	پناہ گزین
<p>I-94: "Cuban/Haitian Entrant (status pending)" (داخل ہونے والے کیوبین/بیشن باشندے (حیثیت زیر التواء))، "Section 212(d)(5) of INA" کی دفعہ (212(d)(5))، "Form I-589 filed" (فارم I-589 دائر شدہ)، یا "CU6"، یا "CU7" کی مہر لگی ہوئی</p> <p>I-94: کی مہر جو INA کی دفعہ (212(d)(5)) کے تحت پیروں کو ظاہر کرے یا 80/10/10 کو یا اس کے بعد امریکہ میں پیروں کو ظاہر کرنے والی مہر اور اس بات کا معقول ثبوت کہ پیروں یافتہ فرد کیوبا یا بیٹی کے نیشنل (شہری) رہے ہیں</p> <p>I-551: "CH6" یا "CU6، CU7" کی مہر لگی ہوئی</p> <p>غیر ملکی پاسپورٹ میں عارضی I-551 کی مہر۔</p> <p>USCIS کا نوٹس یا خط جو جاری اخراج یا ملک بدری کی کارروائی کی نشاندہی کرتا ہے</p> <p>USCIS کی طرف سے یہ ظاہر کرنے والے ایک دستاویز کہ ان فرد نے پناہ کے لیے درخواست دی ہے۔</p>	داخلہ	داخل ہونے والے کیوبین/بیشن باشندے
<p>I-94: مہر لگی ہوئی کہ "Granted asylum under Section 208 of the INA" کے سیکشن 208 کے تحت پناہ دی گئی)</p> <p>I-551: یہ مہر لگی ہوئی "AS1، AS2، AS3، AS6، AS7 یا AS8"</p> <p>I-688B: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن کارڈ پر "8 C.F.R. § 274a.12(a)(5)" درج شدہ</p> <p>I-766: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن دستاویز پر "(a5)" درج شدہ</p> <p>USCIS اسٹائل آفس کا گرانٹ لیٹر</p> <p>امیگریشن جج کا پناہ دینے کا حکم نامہ۔</p>	داخلہ	پناہ یافتگان
<p>I-94: "AM1، AM2، AM3، AM6، AM7 یا AM8" کی مہر درج شدہ۔ مہر پر معائنہ کی تاریخ سے داخلے کی تاریخ اخذ کریں؛ اگر تاریخ موجود نہ ہو تو I-551 یا USCIS سے حاصل کریں</p> <p>I-551: "AM1، AM2، AM3، AM6، AM7 یا AM8" کی مہر درج شدہ۔</p> <p>غیر ملکی پاسپورٹ پر عارضی I-551 کی مہر</p> <p>I-571: پناہ گزین کی سفری دستاویز</p> <p>ویتنامی ایکزٹ ویزا یا پاسپورٹ پر "AM1، AM2 یا AM3" کی مہر لگی ہوئی</p>	داخلہ	امریشین تارکین وطن
<p>I-688B: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن کارڈ پر "8 C.F.R. § 274a.12(a)(10)" درج</p> <p>I-766: ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن دستاویز پر "(a10)" درج</p> <p>امیگریشن جج کا حکم جس میں وہ تاریخ موجود ہو جب ملک بدری کو 1 اپریل 1997 سے پہلے نافذ INA کے سیکشن 243(h) کے تحت روکا گیا تھا یا INA کے سیکشن 241(b)(3) کے نکالے جانے کو روکا گیا تھا۔</p>	داخلہ	ملک بدری یا برطرفی روک دی گئی
<p>I-94: "Admitted under Section 207 of the INA" کی دفعہ 207 کے تحت قبول شدہ، "Refugee" (مہاجر)، "RE1، RE2، RE3 یا RE4" کی مہر لگی ہوئی یا</p> <p>I-551: "RE5، RE6، RE7 یا RE9" کی مہر لگی ہوئی یا</p> <p>غلط بیانیہ کی صورت میں قانونی سزا سے اتفاق کے تحت حلف نامے پر دستخط کر چکے/چکی ہیں کہ وہ 64/5/8 اور 75/7/5 کے درمیان ہمنگ یا ہائی لینڈ لاوشین قبیلے کے رکن یا قبیلے کے/کی رکن کے/کی تصدیق شدہ شریک حیات*، بیوہ، رنڈوا یا غیر شادی شدہ زیر کفالت فرد تھے اور</p> <p>امریکا میں قانونی طور پر رہائش ظاہر کرنے والی دستاویزات</p> <p>طلاق یافتہ میاں/بیوی اہل نہیں ہیں</p>	داخلہ	مخصوص ہمنگ یا ہائی لینڈ لاوشین
<p>I-551: (مستقل رہائشی کارڈ)</p> <p>غیر ملکی پاسپورٹ میں عارضی I-551 کی مہر یا I-94 پر۔</p> <p>I-327: (دوبارہ داخلے کا اجازت نامہ)</p> <p>I-181: منظوری کی مہر کے ساتھ قانونی مستقل رہائش کی تخلیق کا یادداشت نامہ</p>	96/22/8 سے پہلے داخل ہونے والے بعد 96/22/8 کو/ کے بعد داخل ہونے اور 5 سال یا اس سے زائد عرصے سے امریکہ میں ہیں۔	40 کوالیفاننگ کوارٹرز کے بغیر قانونی طور پر مستقل رہائش کے لیے قبول شدہ (Lawfully Admitted For Permanent Residence, LPR)
<p>برخواستگی کا سرٹیفکیٹ (فارم DD-214) جو "Honorable" (باعزت) قرار دے۔ "Under Honorable Discharge" (باعزت حالات میں) برخواستگی کی خصوصیت کو ان مقاصد کے لیے "Honorable Discharge" (باعزت برخواستگی) نہیں مانا جائے گا۔ ملازمت ختم ہونے کی وجہ کی تفصیل والے خانے میں یہ درج نہیں ہونا چاہیے کہ برخواستگی کی وجہ "پریدیسی ہونا" (alienage) یا امریکی شہریت نہ ہونا تھی</p>	داخلہ	سابق فوجی، کم از کم فعال ڈیوٹی (2 سال) کا تقاضہ پورا کر چکنے والے/والی سابق امریکی فوجی کے/کی شریک حیات، ان کے انتقال کے بعد غیر شادی شدہ شریک حیات اور زیر کفالت غیر شادی شدہ اولاد

عمومی دستاویزات	اہلیت کے لیے متعلقہ تاریخ	حیثیت
فوجی شناختی کارڈ (DD فارم 2) (فعال) جس پر درج موثر معیاد کی تاریخ تعین کی تاریخ سے، ایک سال سے زیادہ ہو۔ اگر شناختی کارڈ کی میعاد تعین کی تاریخ سے ایک سال کے اندر ختم ہو رہی ہو تو موجودہ فوجی احکامات کی ایک کاپی استعمال کریں۔	جاری شدہ حیثیت	9. فعال فوجی: مسلح افواج میں حاضر ڈیوٹی یا فوج، بحریہ، فضائیہ، میرین کور یا کوسٹ گارڈ کے رکن، ان کے شریک حیات اور بچے
I-94 جس پر INA کی دفعہ 203(a)(7) کے تحت قبول شدہ کی مہر ہے یا I-688B (ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن کارڈ) پر "274a.12(a)(3)" درج یا I-766 (ایمپلائمنٹ آتھرائزیشن کی دستاویز) پر "a1" یا "a3" درج ہو	داخلہ	10. مشروط داخلہ پانے والے فرد (1980 سے پہلے پناہ گزینوں کو دی گئی حیثیت)
I-797 (کارروائی کا نوٹس) INA سیکشن (iii) 204(a)(1)(A) یا (iv) کے تحت I-360 سیلف درخواست کے تحت اہلیت کے غالب امکان کی نشاندہی کرتا ہے؛ INA کی دفعہ (i) 204(a)(1)(iii)(B) یا (iii)	96/22/8 سے پہلے داخل ہونے والے 96/22/8 کو/ کے بعد داخل ہونے اور 5 سال یا اس سے زائد عرصے سے امریکہ میں ہیں۔	11. ایک امریکی شہری یا LPR کے/کی تشدد کا شکار شریک حیات یا بچہ، یا ایسے شخص کے والدین یا بچہ، جن کو "خواتین کے خلاف تشدد کے قانون (Violence Against Women Act, VAWA) کے تحت USCIS سے ابتدائی طور پر مقدمے کا نوٹس ملا ہو۔
آفس آف ریفریجی ری سیٹلمنٹ (Office of Refugee Resettlement, ORR) کی جانب سے سرٹیفیکیشن کی دستاویز (بالغوں کے لیے) یا اہلیت کا خط (بچوں کے لیے)؛ تصدیق کے لیے 1-866-401-5510 پر لازمی کال کریں I-94 پر ان میں سے کوئی کوڈ درج شدہ T1، T2، T3، T4 یا T5 جس میں درج ہے کہ داخلہ INA کی دفعہ 212(d)(5) کے تحت ہے اگر حیثیت کم از کم ایک سال کے لیے جاری کی گئی ہو۔	داخلہ	12. انسانی سمگلنگ کا شکار
I-94 پر "Paroled pursuant to Section 212(d)(5)" (دفعہ 212(d)(5) کے تحت پیرول یافتہ) یا "parole" (پیرول) یا "PIP" درج شدہ اور داخلے کی تاریخ اور تاریخ ختم ہونے کی تاریخ ایک سال کی نشاندہی کر رہے ہیں I-688B پر "8 CFR" 274a 12(a)(4) یا 274(a) 12(c)(11) درج شدہ I-766 پر "C11" یا A4 درج شدہ، اور I-94 کم از کم ایک سال کے لیے قبول کیے جانے کی نشاندہی کرتے ہوئے	96/22/8 کو امریکہ میں قانونی طور پر رہائش پذیر 96/22/8 کو/ کے بعد امریکہ میں داخل ہونے اور 5 سال یا اس سے زائد عرصے سے امریکہ میں ہیں۔	13. پیرولی (کم از کم ایک سال کے لیے) (غیر شہری جنہیں انسانی ہمدردی یا مفاد عامہ کی وجوہات کی بنا پر امریکہ میں آنے کی اجازت دی گئی ہے)
I-551: (مستقل رہائشی کارڈ): "S1-3" کی مہر لگی ہوئی، کینیڈا کے پاسپورٹ پر عارضی I-551 کی مہر لگی ہوئی I-94: "S1-3" کی مہر لگی ہوئی یا قبائلی دستاویز جو کم از کم 50% امریکی انڈین آبائیت کی تصدیق کرتی ہے، جیسا کہ INA کی دفعہ 289 کے تحت مطلوب ہے یا کسی وفاقی طور پر تسلیم شدہ قبیلے اور اسکول کے ریکارڈ کے دستاویزات میں درج رکن، یا ریبرویشن پر جاری شدہ پیدائش یا بیٹسمہ کا سرٹیفکیٹ، یا کینیڈا میں پیدائش کا دیگر تسلی بخش ثبوت	NA	14. کینیڈا میں پیدا ہونے والے شمالی امریکی انڈین
ممبرشپ کارڈ یا دیگر قبائلی دستاویز جو انڈین سیلف ڈیٹرمینیشن اینڈ ایجوکیشن اسسٹنس ایکٹ کی دفعہ 4(e) کے تحت وفاقی طور پر تسلیم شدہ انڈین قبیلے میں رکنیت کا ثبوت ہے۔	NA	15. وفاقی طور پر تسلیم شدہ قبیلے کے امریکہ سے باہر پیدا ہونے والے رکن